



سیرو سیاحت (ہالیڈے) کے دوران  
پیروں کی حالت  
ذیسپیلس کے بارے میں  
معلومات اور مشورہ پر مبنی کتابچہ

پیش کش: سکاٹش ذیسپیلس گروپ - فٹ ایکشن گروپ

### رابطے کیلئے مقامی نمبر

پڈاٹری (پاؤں کے عملے کا) ڈپارٹمنٹ

جزل پریکلینس کلینک

### زمادہ یا کم ٹھپر بیج سے بچیں

اپنے پیروں پر اعلیٰ قسم کی دھوپ سے بچاؤ کی کریم (فیکٹر 30 یا اس سے زیادہ)  
استعمال کرتے ہوئے یا پھر انہیں ڈھانپ کر سورج کی تمازت سے بچائیں۔ اپنے  
پیروں کی حفاظت کیلئے گرے رنگوں کا میٹریل استعمال نہ کریں کیونکہ یہ رنگ  
گرمی جذب کرتے ہیں اور اس طرح آپ کے پاؤں میں جلن ہو سکتی ہے۔

اگر آپ اپنے پاؤں میں کوئی تکلیف محسوس کریں تو مشورے کیلئے فوراً آپنے  
پڈاٹری (پاؤں کے عملے کے) کلینک یا جزل پریکلینس سے رجوع کریں۔

صحبتند پیروں سے آپ کو اپنی تعطیلات سے لطف اندوز ہونے میں  
مدھلے گی۔

انفرادی مشورہ

## سیر و سیاحت کے دوران پیروں کی حفاظت

ذیا بیطس (diabetes) زندگی بھر رہنے والا مرض ہے جس کی وجہ سے آپ کے پیروں میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے کچھ مسائل آپ کے پاؤں کے اعصاب اور خون فراہم کرنے والی نالیوں کے متاثر ہو جانے کی وجہ سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس سے مندرجہ ذیل متاثر ہو سکتے ہیں۔

◆ آپ کے پاؤں میں چھوٹے کی سس (peripheral neuropathy):  
اور

◆ آپ کے پاؤں میں خون کی گردش (Ischaemia)  
یہ تبدیلیاں بذریعہ غیر محسوس طریقے سے رونما ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ آپ اپنے پاؤں بالخصوص جب آپ چھٹیوں پر ہوں، باقاعدگی کے ساتھ چیک کریں کیونکہ سیر و سیاحت میں آپ اپنے معمول سے زیادہ متحرک ہوتے ہیں۔

ذیا بیطس، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر اچھی طرح نظر وول سے آپ کو اپنے پیروں میں نظرات میں کمی لانے میں مدد ملے گی۔

اس کتابچے میں سیر و سیاحت سے لطف اندوز ہونے کے دوران اپنے پاؤں کی دیکھ بھال کرنے میں آپ کی مدد کیلئے مشورہ دیا گیا ہے۔



## آنکھ پاؤں چلنے سے گریز کریں

اگر آپ ساحل پر بھی ہوں، ہمیشہ جوتے پہنے رکھیں۔ ریت بہت زیادہ گرم ہو سکتی ہے اور اس سے آپ کی جلد جھلس سکتی ہے اور آپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہو گا۔ اگر آپ سمندر میں جاتے ہیں تو اپنے پیروں کی حفاظت کیلئے کسی قسم کے جوتے مثلًا پلاستک کے جوتے ضرور پہنیں۔



چپل (فلپ فlap) نہ پہنیں کیونکہ ان سے آپ کے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان چھالے پڑ سکتے ہیں۔

## مخصوص جو تے

اگر آپ کو خاص جوتے فراہم کیے گئے ہیں تو اپنی تعطیلات کے دوران (سوائے جب آپ سمندر میں ہوں) کوئی اور جوتے نہ پہنیں۔

## معمولی زخم اور چھالے

ابتدائی طبی امداد کا ایک چھوٹا باکس (فست ایڈکٹ) بھی ساتھ رکھ لیں جس میں جراثیم سے پاک جالی دار پٹی (سٹیر ایل کاٹر) اور مانیکر و پورٹیپ بھی موجود ہو۔ اگر آپ کے پیروں میں آبلہ پڑ گیا ہے، زخم لگ گیا ہے یا پھر گڑا گئی ہے تو ایک گاز سواب (gauze swab) (یعنی جاذب کپڑے یا پیدا پہلا کا جراثیم کش محلوں (diluted antiseptic) لگا کر زخم کو صاف کر لیں اور پھر زخم پر خشک صاف پٹی چکائیں۔ کپاس کی روئی استعمال نہ کریں۔

## آپ کے پیروں کو صحمند رکھنے کیلئے مشورہ

لبے سفر سے آپ کے پاؤں میں سو جن ہو سکتی ہے۔ اگر ممکن ہو تو ہر آدمی گھنٹے کے بعد چھل تدمی کی کوشش کریں۔ حقی کے چھوٹے فاصلے پر چھل تدمی سے بھی آپ کو اپنے پاؤں صحمند رکھنے میں مدد ملے گی۔ اس سے خون کی گردش جاری رہے گی اور سو جن کم ہو گی۔ یاد رکھیں کہ گرمی کی وجہ سے آپ کے پاؤں سوچ سکتے ہیں اس لیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے جوتے بہت زیادہ تنگ نہ ہوں۔

## روزانہ اپنے پیروں کی سس کریں

اپنے پیروں پر چھالے، کثی پھٹی جلد، درد یا نکیشن کی دیگر علامات مثلًا سو جن، تمیش یا سرخی چیک کرنے کیلئے آپ کو دون میں کم از کم ایک مرتبہ اپنے پیروں کو ضرور چیک کر لینا چاہئے جس طرح آپ گھر پر کرتے ہیں۔

## اپنے پاؤں روزانہ دھوئیں

اپنے پاؤں کو روزانہ گرم پانی اور درمیانے درجے کے صابن سے دھوئیں۔ انہیں خوب مل کر دھوئیں اور بالخصوص انگلیوں کے درمیان سے احتیاط کے ساتھ خشک کریں

## اپنے پیروں پر روزانہ ماگریز نگ کریم لگائیں

اگر آپ کی جلد خشک ہے تو انگلیوں کے درمیانی حصوں کو نظر انداز کرتے ہوئے پیروں پر روزانہ ماگریز نگ کریم لگائیں۔ اگر گرم یا سرد موسم میں آپ کی جلد بہت زیادہ خشک ہو جاتی ہے تو آپ کو ماگریز نگ کریم کی زیادہ مقدار لگانا ہو گی۔

## پیروں کی انگلیوں کے ناخن

جیسا کہ آپ کے پاؤں اسٹریٹ (پاؤں کے امراض کے ماہر) نے آپ کو مشورہ دیا ہے، اپنے پیروں کی انگلیوں کے ناخن تراشیت رہا کریں۔